

Freebooks.pk

مفت نوٹس • پرانے پرچہ جات • رہنما کتب

معاشیات جماعت دہم – پنجاب بورڈ (اردو میڈیم)

باب 12

سرکاری مالیات (Public Finance)

سرکاری و نجی مالیات • بجٹ کی اقسام • سرکاری وصولیاں و اخراجات • سرکاری قرضہ



باب 12: سرکاری مالیات (Public Finance)

پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ (PCTB) کے تحت جماعت دہم کے مضمون معاشیات کے اس باب میں سرکاری مالیات کے موضوع کا مطالعہ کیا جاتا ہے: سرکاری اور نجی مالیات میں مماثلت و فرق، بجٹ کی تعریف و اقسام، سرکاری وصولیاں، سرکاری اخراجات، اور سرکاری قرضہ۔

سرکاری مالیات حکومت کی آمدنی اور اخراجات میں توازن قائم رکھنے اور ملکی معیشت کو منظم کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ نوٹس Freebooks.pk نے تیار کیے ہیں۔

تعلیمی مقاصد

- سرکاری مالیات کی تعریف بیان کریں۔
- نجی اور سرکاری مالیات میں مماثلت و فرق کی وضاحت کریں۔
- بجٹ کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں۔
- سرکاری وصولیوں کے اہم ذرائع بیان کریں۔
- سرکاری اخراجات کی اہم مدات بیان کریں۔
- سرکاری قرضہ اور اس کے حصول کی وجوہات بیان کریں۔

کلیدی تصورات

سرکاری مالیات کی تعریف

سرکاری مالیات سے مراد کسی ملک کے سرکاری اخراجات اور سرکاری آمدنی کے باہمی تعلق اور تنظیم ہے۔ خالصتاً معاشی اصطلاح میں یہ حکومت کی وہ مالیاتی پالیسی ہے جس کا تعلق ٹیکس عائد کرنے، سرکاری اخراجات کرنے، اور سرکاری قرضے حاصل کرنے کے فیصلوں سے ہے۔

بالفاظ دیگر حکومت اپنی وصولیوں اور اخراجات کے ذریعے ملکی معاشی سرگرمیوں کو سرانجام دیتی ہے، اور اسی باہمی تنظیم کو سرکاری مالیات کہا جاتا ہے۔



نجی اور سرکاری مالیات کی مماثلت

نجی مالیات افراد کی آمدنیوں اور اخراجات کے مطالعہ کا نام ہے، جبکہ سرکاری مالیات حکومت کی وصولیوں اور اخراجات کی تنظیم ہے۔ دونوں میں تین بنیادی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔

پہلی، دونوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں اس لیے کم وسائل سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری، دونوں کو آمدنی اور اخراجات میں توازن کے لیے قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری، دونوں اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔

نجی اور سرکاری مالیات میں فرق

نجی اور سرکاری مالیات میں چھ بڑے فرق پائے جاتے ہیں: آمدنی و اخراجات میں توازن (عام آدمی آمدنی کے مطابق خرچ کرتا ہے، حکومت کے اخراجات اکثر وصولیوں سے تجاوز کرتے ہیں)، بجٹ کی مدت (عام آدمی کی کوئی مقررہ مدت نہیں، حکومت کا بجٹ ایک سال کا ہوتا ہے)، اور مستقبل کی ضرورت (عام آدمی اپنی ذات کے لیے، حکومت آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ کاری کرتی ہے)۔

باقی تین فرق: قرضوں کا حصول (عام آدمی صرف بیرونی قرضہ لے سکتا ہے، حکومت اندرونی اور بیرونی دونوں)، خسارے کی پالیسی (حکومت نوٹ چھاپ کر یا ٹیکس لگا کر خسارہ پورا کر سکتی ہے، عام آدمی نہیں)، اور تشہیر (حکومت اپنا بجٹ کھلم کھلا ظاہر کرتی ہے، عام آدمی اپنی آمدنی چھپاتا ہے)۔

بجٹ کی تعریف اور اقسام

بجٹ (میزان) ایک گوشوارہ ہے جس میں حکومت آنے والے سال کی متوقع آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ پیش کرتی ہے۔ پاکستان کے مالی سال کا دورانیہ یکم جولائی سے اگلے سال کے 30 جون تک ہوتا ہے۔

اگر متوقع اخراجات متوقع آمدنی سے زیادہ ہوں تو اسے خسارے کا بجٹ کہتے ہیں۔ اگر متوقع آمدنی زیادہ ہو تو فاضل بجٹ، اور دونوں برابر ہوں تو متوازن بجٹ کہلاتا ہے۔



سرکاری وصولیاں

حکومت پاکستان کی وصولیوں کے پانچ اہم ذرائع ہیں: محصولات (ٹیکس) – سرکاری وصولی کا سب سے بڑا ذریعہ، جس میں درآمدی و برآمدی محصولات، ایکسائز ڈیوٹی، براہ راست ٹیکس اور دیگر ٹیکس شامل ہیں، اور قیمت (سرکاری اشیا و خدمات فروخت کر کے حاصل ہونے والی وصولی، جیسے سرکاری زمین یا لکڑی فروخت کرنا)۔

باقی ذرائع: فیس (کسی خدمت کے عوض لازمی ادائیگی، جیسے ڈرائیونگ لائسنس یا کورٹ فیس)، جرمانے (قوانین کی خلاف ورزی پر وصول کی جانے والی رقم)، اور متفرق وصولیاں (غیر ملکی کمپنیوں کے حصص پر منافع، تحائف، رجسٹریشن فیس وغیرہ)۔

سرکاری اخراجات اور سرکاری قرضہ

سرکاری اخراجات کی پانچ اہم مدات ہیں: دفاع (فوج کو جدید اسلحہ سے لیس کرنا)، قرضوں پر سود کی ادائیگی (اکثر کل اخراجات کا سب سے بڑا حصہ)، عدالتیں (انصاف کی فراہمی)، نظم و نسق (پولیس و انتظامیہ)، اور متفرق اخراجات (صحت، تعلیم، مواصلات وغیرہ)۔

سرکاری قرضہ وہ رقم ہے جو حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک یا اندرونی ذرائع سے حاصل کرتی ہے۔ حکومت قرضہ عموماً پانچ وجوہات کی بنا پر لیتی ہے: بجٹ کا خسارہ پورا کرنے، ہنگامی حالات (جنگ، زلزلہ، سیلاب) سے نمٹنے، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، رفاہ عامہ کے کاموں، اور بین الاقوامی ادائیگیوں کا خسارہ دور کرنے کے لیے۔

اہم تعریفات

سرکاری مالیات (Public Finance)

کسی ملک کے سرکاری اخراجات اور سرکاری آمدنی کے باہمی تعلق اور تنظیم کا مطالعہ۔

نجی مالیات (Private Finance)

افراد کی آمدنیوں اور اخراجات کی نوعیت اور ان سے متعلق اصولوں کے مطالعہ کا نام۔

بجٹ (Budget)

ایک گوشوارہ جس میں حکومت آنے والے سال کے لیے اپنی متوقع آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ پیش کرتی ہے۔



خسارے کا بجٹ (Deficit Budget)

وہ بجٹ جس میں حکومت کے متوقع اخراجات اس کی متوقع آمدنی سے زیادہ ہوں۔

فاضل بجٹ (Surplus Budget)

وہ بجٹ جس میں حکومت کی متوقع آمدنی اس کے متوقع اخراجات سے زیادہ ہو۔

متوازن بجٹ (Balanced Budget)

وہ بجٹ جس میں حکومت کی متوقع آمدنی اور متوقع اخراجات برابر ہوں۔

سرکاری قرضہ (Public Debt)

وہ رقم جو حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک یا اندرونی ذرائع سے ادھار لیتی ہے۔

محصولات (Tax)

وہ لازمی کٹوتی جو حکومت افراد اور کاروباری اداروں کی آمدنیوں پر ایک خاص شرح سے وصول کرتی ہے۔

اہم حقائق

عنوان	تفصیل
بجٹ کی تین اقسام	خسارہ (اخراجات زیادہ)، فاضل (آمدنی زیادہ)، متوازن (دونوں برابر)
پاکستان کے مالی سال کا دورانیہ	یکم جولائی سے اگلے سال کے 30 جون تک
سرکاری وصولیوں کے پانچ ذرائع	محصولات، قیمت، فیس، جرمانے، متفرق وصولیاں
سرکاری اخراجات کی پانچ اہم مدات	دفاع، قرضوں پر سود، عدالتیں، نظم و نسق، متفرق اخراجات
سرکاری قرضہ لینے کی پانچ وجوہات	بجٹ خسارہ، ہنگامی حالات، ترقیاتی منصوبے، رفاہ عامہ، بین الاقوامی ادائیگیوں کا خسارہ



خاکہ جات و تصاویر

نجی اور سرکاری مالیات میں چھ فرق کا خاکہ: ایک خاکہ جو نجی اور سرکاری مالیات کے مابین چھ بنیادی فرقوں کو دکھاتا ہے۔

نجی اور سرکاری مالیات میں چھ فرق

آمدنی و اخراجات میں توازن	بجٹ کی مدت	مستقبل کی ضرورت
عام آدمی آمدنی کے مطابق خرچ کرتا، حکومت التزاماً کرتی ہے	عام آدمی کی کوئی مقررہ مدت نہیں، حکومت کا بجٹ ایک سال کا ہے	عام آدمی اپنی ذات کے لیے: حکومت آئندہ نسلوں کے لیے کرتی ہے
قرضوں کا حصول	خسارے کی پالیسی	تسہیل
عام آدمی صرف بیرونی قرضہ کم حکومت اندرونی و بیرونی دونوں لے سکتی ہے	حکومت نوٹ بھاپ کر یا ٹیکس لگا کر خسارہ پورا کر سکتی ہے	حکومت بجٹ کلم کھلا غابر کرتی ہے، عام آدمی آمدنی چھپاتا ہے

نجی اور سرکاری مالیات میں چھ فرق کا خاکہ

سرکاری وصولیاں اور اخراجات کا خاکہ: ایک خاکہ جو سرکاری وصولیوں کے ذرائع اور سرکاری اخراجات کی مدات کو دو کالموں میں دکھاتا ہے۔

سرکاری وصولیاں اور اخراجات

سرکاری وصولیاں	سرکاری اخراجات
محصولات (ٹیکس) قیمت فیس جرمانے متفرق وصولیاں	دفاع قرضوں پر سود کی ادائیگی عدالتیں نظم و نسق متفرق اخراجات

سرکاری وصولیاں اور اخراجات کا خاکہ



مختصر سوالات و جوابات

سرکاری مالیات سے کیا مراد ہے؟

سرکاری مالیات سے مراد کسی ملک کے سرکاری اخراجات اور سرکاری آمدنی کے باہمی تعلق اور تنظیم ہے۔

نجی مالیات سے کیا مراد ہے؟

نجی مالیات افراد کی آمدنیوں اور اخراجات کی نوعیت اور ان سے متعلق اصولوں کے مطالعہ کا نام ہے۔

بجٹ کی تعریف کریں۔

بجٹ ایک گوشوارہ ہے جس میں حکومت آنے والے سال کے لیے اپنی متوقع آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ پیش کرتی ہے۔

پاکستان کے مالی سال کا دورانیہ کیا ہے؟

پاکستان کے مالی سال کا دورانیہ یکم جولائی سے اگلے سال کے 30 جون تک ہوتا ہے۔

خسارے کا بجٹ اور فاضل بجٹ میں کیا فرق ہے؟

خسارے کے بجٹ میں اخراجات آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ فاضل بجٹ میں آمدنی اخراجات سے زیادہ ہوتی ہے۔

سرکاری وصولی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟

محصولات (ٹیکس) سرکاری وصولی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔

فیس اور جرمانے میں کیا فرق ہے؟

فیس کسی خدمت کے عوض ادا کی جانے والی لازمی ادائیگی ہے، جبکہ جرمانہ قوانین کی خلاف ورزی پر وصول کیا جاتا ہے۔

سرکاری اخراجات کی کوئی دو اہم مدات بتائیں۔

دفاع اور قرضوں پر سود کی ادائیگی سرکاری اخراجات کی اہم مدات ہیں۔

سرکاری قرضہ سے کیا مراد ہے؟

سرکاری قرضہ وہ رقم ہے جو حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک یا اندرونی ذرائع سے ادھار لیتی ہے۔



حکومت سرکاری قرضہ کیوں لیتی ہے؟ کوئی ایک وجہ بیان کریں۔
حکومت اکثر بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے سرکاری قرضہ لیتی ہے۔

تفصیلی سوالات و جوابات

نجی اور سرکاری مالیات میں فرق بیان کریں۔

آمدنی و اخراجات میں توازن اور بجٹ کی مدت میں کیا فرق ہے؟

عام آدمی اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرتا ہے، جبکہ حکومت کے اخراجات اکثر وصولیوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔
عام آدمی کے لیے بجٹ کی کوئی مقررہ مدت نہیں، جبکہ حکومت کا بجٹ ایک سال کے لیے تیار ہوتا ہے۔

مستقبل کی ضرورت کے حوالے سے کیا فرق ہے؟

عام آدمی اپنی ذات اور اپنی نسل کے لیے سرمایہ کاری کرتا ہے، جبکہ حکومت موجودہ اور آنے والی نسلوں دونوں کی فلاح کے لیے سرمایہ کاری کرتی ہے۔

قرضوں کے حصول میں کیا فرق ہے؟

عام آدمی صرف بیرونی ذرائع (رشتہ دار، دوست) سے قرضہ لے سکتا ہے، جبکہ حکومت اندرونی اور بیرونی دونوں ذرائع (بین الاقوامی مالیاتی فنڈ، تجارتی بینک وغیرہ) سے قرضے حاصل کر سکتی ہے۔

خسارے کی پالیسی اور تشہیر میں کیا فرق ہے؟

حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے نوٹ چھاپ سکتی ہے یا ٹیکس لگا سکتی ہے، جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ حکومت اپنا بجٹ کھلم کھلا ظاہر کرتی ہے، جبکہ عام آدمی اپنی آمدنی و اخراجات چھپاتا ہے۔



سرکاری وصولیوں اور اخراجات پر نوٹ لکھیں۔

سرکاری وصولیوں کے اہم ذرائع کیا ہیں؟

محصولات (ٹیکس) سب سے بڑا ذریعہ ہیں، جبکہ قیمت سے مراد سرکاری اشیا و خدمات (جیسے زمین یا لکڑی) فروخت کر کے حاصل ہونے والی وصولی ہے۔

فیس، جرمانے اور متفرق وصولیاں کیا ہیں؟

فیس کسی خدمت کے عوض لازمی ادائیگی ہے (جیسے لائسنس فیس)۔ جرمانے قوانین کی خلاف ورزی پر وصول کیے جاتے ہیں۔ متفرق وصولیوں میں تحائف، امدادی رقوم اور رجسٹریشن فیس شامل ہیں۔

سرکاری اخراجات کی اہم مدات کیا ہیں؟

دفاع پر ملک کی سلامتی کے لیے خطر رقم خرچ ہوتی ہے، جبکہ قرضوں پر سود کی ادائیگی اکثر سرکاری اخراجات کا سب سے بڑا حصہ بن جاتی ہے۔

عدالتوں، نظم و نسق اور متفرق اخراجات پر کیا خرچ ہوتا ہے؟

عدالتوں پر انصاف کی فراہمی کے لیے، نظم و نسق پر پولیس اور امن و امان کے لیے، اور متفرق اخراجات میں صحت، تعلیم اور مواصلات پر رقم خرچ کی جاتی ہے۔

معروضی سوالات (MCQs)

حکومت سرکاری مالیات میں اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ کس مدت کے لیے لگاتی ہے؟ (الف) سال بھر کے لیے (ب) ایک ماہ کے لیے (ج) مہینہ کے لیے (د) چھ ماہ کے لیے
درست جواب: (الف) سال بھر کے لیے۔ حکومت کا بجٹ ایک سال کی مدت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

سرکاری مالیات کے تحت حکومت بجٹ کے خسارے کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ (الف) پیداوار میں اضافہ (ب) آمدنی میں اضافہ (ج) نوٹ چھاپنا (د) زر کی رسد میں کمی
درست جواب: (ج) نوٹ چھاپنا۔ حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے نوٹ چھاپ کر یا ٹیکس لگا کر اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔



سرکاری وصولی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ (الف) فیس (ب) جرمانے (ج) محصولات (ٹیکس) (د) متفرق وصولیاں

درست جواب: (ج) محصولات (ٹیکس)۔ محصولات (ٹیکس) سرکاری وصولی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔

پاکستان کا مالی سال کب سے کب تک ہوتا ہے؟ (الف) یکم جنوری تا 31 دسمبر (ب) یکم جولائی تا 30 جون (ج) یکم اپریل تا 31 مارچ (د) یکم اکتوبر تا 30 ستمبر

درست جواب: (ب) یکم جولائی تا 30 جون۔ پاکستان کے مالی سال کا دورانیہ یکم جولائی سے اگلے سال کے 30 جون تک ہوتا ہے۔

جب متوقع اخراجات متوقع آمدنی سے زیادہ ہوں تو بجٹ کیا کہلاتا ہے؟ (الف) فاضل بجٹ (ب) متوازن بجٹ (ج) خسارے کا بجٹ (د) جامع بجٹ

درست جواب: (ج) خسارے کا بجٹ۔ اخراجات آمدنی سے زیادہ ہونے کی صورت حال کو خسارے کا بجٹ کہتے ہیں۔

سرکاری اخراجات کی کون سی مد اکثر کل اخراجات کا سب سے بڑا حصہ بن جاتی ہے؟ (الف) عدالتیں (ب) قرضوں پر سود کی ادائیگی (ج) نظم و نسق (د) متفرق اخراجات

درست جواب: (ب) قرضوں پر سود کی ادائیگی۔ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں دی جانے والی رقم اکثر سرکاری اخراجات کا سب سے بڑا حصہ بن جاتی ہے۔

درج ذیل میں سے کون سا سرکاری قرضہ لینے کا سبب نہیں ہے؟ (الف) بجٹ کا خسارہ پورا کرنا (ب) ہنگامی حالات سے نمٹنا (ج) ذاتی اخراجات بڑھانا (د) ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل

درست جواب: (ج) ذاتی اخراجات بڑھانا۔ حکومت قرضہ عوامی مقاصد (بجٹ خسارہ، ہنگامی حالات، ترقیاتی منصوبے وغیرہ) کے لیے لیتی ہے، ذاتی اخراجات کے لیے نہیں۔

نجی اور سرکاری مالیات میں مماثلت کس نکتے پر پائی جاتی ہے؟ (الف) دونوں کے وسائل محدود ہیں (ب) دونوں محدود وسائل سے زیادہ فائدہ چاہتے ہیں (ج) دونوں نوٹ چھاپ سکتے ہیں (د) دونوں کا بجٹ ایک سال کا ہوتا ہے

درست جواب: (ب) دونوں محدود وسائل سے زیادہ فائدہ چاہتے ہیں۔ نجی اور سرکاری مالیات دونوں کے وسائل محدود ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کم وسائل سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔



لائسنس یا کورٹ فیس کس قسم کی سرکاری وصولی میں شامل ہے؟ (الف) محصولات (ب) قیمت (ج) فیس (د) جرمانے

درست جواب: (ج) فیس۔ فیس کسی خدمت کے عوض ادا کی جانے والی لازمی ادائیگی ہے، جیسے ڈرائیونگ لائسنس یا کورٹ فیس۔

حکومت اندرونی قرضہ کن اداروں سے حاصل کر سکتی ہے؟ (الف) بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (ب) ورلڈ بینک (ج) تجارتی بینک اور مالیاتی ادارے (د) دوسرے ممالک کی حکومتیں

درست جواب: (ج) تجارتی بینک اور مالیاتی ادارے۔ حکومت اندرونی قرضہ تجارتی بینکوں اور مالیاتی اداروں سے حاصل کر سکتی ہے، جبکہ بیرونی قرضہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک جیسے اداروں سے۔

تیز نظر ثانی خلاصہ

- سرکاری مالیات حکومت کی آمدنی و اخراجات کی تنظیم ہے، نجی مالیات افراد کی۔
- نجی اور سرکاری مالیات میں تین مماثلتیں اور چھ فرق یاد رکھیں۔
- بجٹ کی تین اقسام: خسارہ، فاضل، متوازن۔ پاکستان کا مالی سال یکم جولائی تا 30 جون۔
- سرکاری وصولیوں کے پانچ ذرائع: محصولات، قیمت، فیس، جرمانے، متفرق۔
- سرکاری اخراجات کی پانچ مدات: دفاع، قرضوں پر سود، عدالتیں، نظم و نسق، متفرق۔
- سرکاری قرضہ لینے کی پانچ وجوہات کی فہرست بنا کر یاد کریں۔

امتحانی نکات

- نجی اور سرکاری مالیات کے چھ فرق ایک جدول بنا کر موازنہ کریں۔
- بجٹ کی تین اقسام کو مثالوں کے ساتھ یاد رکھیں۔
- پاکستان کے مالی سال کی تاریخیں (یکم جولائی، 30 جون) رٹ لیں۔
- سرکاری وصولیوں اور اخراجات کی فہرستیں دو الگ کالموں میں لکھ کر یاد کریں۔
- محصولات اور قیمت کے فرق کو مثالوں سے سمجھیں (ٹیکس بمقابلہ زمین کی فروخت)۔
- سرکاری قرضہ لینے کی پانچ وجوہات کو مختصر جملوں میں یاد رکھیں۔

